

بون سیکرس ہیلتھ سسٹم، انک۔ مالی معاونت کے خلاصہ کی شیٹ

بون سیکرس ہیلتھ سسٹم، انک۔ (BSHSI) کا مقصد ضرورت مندوں کو ان کی ادا کرنے کی صلاحیت سے قطع نظر، ہمدردانہ، معیاری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنا ہے۔ (BSHSI) ان انشیورڈ اور غیر انشیورڈ دونوں مریضوں کو مالی مدد فراہم کرتا ہے جو ہمارے کسی بھی ہسپتال کی سہولیات سے ہنگامی یا دیگر طبی طور پر ضروری دیکھ بھال حاصل کر رہے ہوں۔

مالی معاونت کے لئے کون اہل ہے؟

BSHSI کی مالی معاونت کی پالیسی ("FAP") موجودہ وفاقی غربت کی ہدایات (FPG) کے 200% یا اس سے کم سالانہ مجموعی خاندانی آمدنی والے اہل انشیورڈ اور غیر انشیورڈ مریضوں کو ہنگامی صورت حال یا دیگر طبی طور پر ضروری دیکھ بھال کے لئے 100% مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ BSHSI ان مریضوں کو ایک رعایتی شرح بھی فراہم کرتا ہے جن کی خاندانی مجموعی آمدنی FPG کی 201% اور 400% کے درمیان ہے۔ ایک FAP اہل فرد یا ایک غیر انشیورڈ فرد کہ مالی امداد کا اہل نہیں ہوتا ہے ان مریضوں کو جن کے پاس اس طرح کی دیکھ بھال کے لئے انشیورینس موجود ہے ہنگامی صورت حال یا دیگر طبی طور پر ضروری دیکھ بھال کے لئے عام طور پر بلڈ (AGB) رقومات سے زیادہ چارج نہیں کیا جائے گا۔

مالی امداد کے لئے درخواست کس طرح دی جائے؟

وہ افراد جنہیں ہنگامی اور طبی طور پر ضروری دیکھ بھال کے لئے رقم ادا کرنے کی اپنی صلاحیت کے بارے میں خدشات ہیں وہ مالی امداد کی درخواست کر سکتے ہیں۔ مالی امداد کے لئے درخواست دینے کے لیے، ایک مریض (یا ان کے خاندان یا دیگر فراہم کنندہ) کو ہمارے مالی امداد کی درخواست کو پر کرنا چاہئے۔ ہمارے گاہک کی دیکھ بھال کے شعبہ پر (مقامی) 804-342-1500 یا (ٹول فری) 877-342-1500 پر ر کال کریں۔ بون سیکرس مالی امدادی پروگرام پی۔او۔ باکس 742431 اٹلانٹا GA, 30374-2431 پر پر بھیجیں۔ حتمی طور پر، مالی معاونت کی درخواست اور FAP کو www.fa.bonsecours.com پر ہماری ویب سائٹ سے ایک کاپی کو ڈاؤن لوڈ کر کے مفت میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔

میں مالی معاونت کی درخواست کو پر کرنے میں مدد کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟

وہ افراد جنہیں مالی معاونت کی درخواست مکمل کرنے میں مدد کی ضرورت ہے وہ مندرجہ ذیل درج کئے گئے نمبروں پر گاہک کی دیکھ بھال کے شعبہ پر کال کر سکتے ہیں۔

کون کون سی خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے؟

بیرونی مریضوں کی خدمات، اندرونی مریضوں کی دیکھ بھال، اور ہنگامی وسعت کی خدمات کو شامل کرتے ہوئے FAP کے تحت تمام ہنگامی طبی طور پر ضروری خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ غیر اہل خدمات جیسے کہ اختیاری طبی طور پر غیر ضروری طریقہ کار، کاسمیٹک اور فلیٹ شرح کے طریقہ کار، وہ مریض جو اپنی انشیورینس کا استعمال نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، پائیدار طبی سامان، گھر کی دیکھ بھال، ایک حادثے کے نتیجے کے طور پر فراہم کی جانے والی خدمات، اور تجویز کردہ ادویات مالی معاونت کے پروگرام کے تحت ان کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ اگر ایک حادثے کے نتیجے کے طور پر فراہم کی جانے والی خدمات کا ایک تیسری پارٹی کی طرف سے احاطہ نہیں کیا گیا ہو تو، مریض مالی امداد کے لئے درخواست کر سکتے ہیں۔ ان ڈاکٹروں اور ماہرین سے چارجیز جو BSHSI کے ملازم نہیں ہیں اور ہسپتال میں خدمات فراہم کرنے والے BSHSI کے مالی معاونت کے پروگرام کا احترام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پتہ لگانے کے لئے کہ آپ کا ڈاکٹر BSHSI کے مالی معاونت کے پروگرام میں شرکت پذیر ہے یا نہیں آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنا چاہئے یا www.fa.bonsecours.com پر ہماری ویب سائٹ کا دورہ کرنا چاہئے۔

اگر میرے ذہن میں کسی طرح کے سوالات ہوں یا مجھے درخواست کو مکمل کرنے میں مدد کی ضرورت ہو تو میں کیا کروں؟

اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ ہمارے ہسپتالوں میں واقع کسی مالیاتی مشیر یا خزانچی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا ہمارے گاہک کی دیکھ بھال کے شعبہ پر (مقامی) 804-342-1500 یا (ٹول فری) 877-342-1500 پر کال کریں۔ ہمارے ہسپتال کے رجسٹریشن کے علاقوں میں سے کسی کا دورہ کر کے ساتھ ہی ہمارے ہسپتالوں میں واقع ہمارے کسی بھی مالیاتی مشیروں یا خزانچیوں کے ساتھ ملاقات کر کے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ انگریزی نہ بولنے والے مریضوں کے لئے، اس دستاویز کا ترجمہ، FAP اور مالی معاونت کی درخواست انگریزی اور ہسپانوی کو شامل کرتے ہوئے درخواست کئی زبانوں میں دستیاب ہیں۔ اس سادہ زبان کے خلاصہ، BSHSI FAP اور مالی معاونت کی درخواست کے تراجم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے برائے مہربانی مندرجہ بالا نمبروں پر کال کریں یا www.fa.bonsecours.com پر ہماری ویب سائٹ کا دورہ کریں۔